

فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کا 61 سالانہ اجلاس عام (AGM) 18 اکتوبر 2017 بروز بدھ دوپہر 12:30 PM بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 197-A، دی مال، راولپنڈی میں منعقد ہو گا جس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر بحث لائے جائیں گے:

- 30 جون 2017 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ گوشوارے (Audited accounts) بمع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 4 روپے فی عمومی حصص (40%) حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی منظوری یہ ڈیویڈنڈ 3 روپے فی عمومی حصص (30%) عبوری نقد ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے جو حصص داروں کو ادا کیا جا چکا ہے، اس طرح 30 جون 2017 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے نقد ڈیویڈنڈ 7 روپے فی عمومی حصص (70%) ہو جاتا ہے۔
- 30 جون 2018 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور اہل ہونے کے بنا عہدہ انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔
- صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر معاملے کو زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ
سید غوث الدین سیف
کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی
30 اگست 2017

نوٹس:

- 1. حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش**
کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 11 اکتوبر 2017 سے 18 اکتوبر 2017 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور، کو 10 اکتوبر 2017 تک کاروباری اوقات میں موصول ہونے والی منتقلی کی باضابطہ درخواستیں اوپر بتائے گئے حقوق کیلئے اہل سمجھی جائیں گی۔
- 2. سالانہ اجلاس عام میں شرکت**
کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی اور ممبر کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ دستخط کی اتھارٹی کے ساتھ باضابطہ طور پر مکمل پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے پتے پر کمپنی سیکرٹری کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جانا چاہئے۔
- 3. پتے میں تبدیلی**
پتے میں تبدیلی کی صورت میں ممبر کو چاہئے کہ فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور، کو آگاہ کرے۔
- 4. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق CDC میں اکاؤنٹ رکھنے والے افراد کو درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گا**

(A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

- i. افراد کی صورت میں؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد اور/یا گروپ اکاؤنٹس میں حصص رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، ایسے افراد کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے شناخت کروانا ہوگی۔
- ii. کارپوریٹ اداروں کی صورت میں؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ اجلاس میں شرکت کے وقت (اگر پہلے مہیا نہیں کی گیا تو) مہیا کرنا ہو گا۔

(B) پراکسی مقرر کرنے کیلئے:

- i. افراد کی صورت میں؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد اور/یا گروپ اکاؤنٹس میں حصص رکھنے والے افراد جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، پراکسی فارم مندرجہ ذیل ضابطے کے مطابق جمع کروائیں گے۔
- ii. پراکسی فارم کے 2 گواہ ہونے چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہونے چاہئے۔
- iii. اصل مالک اور پراکسی فرد کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لف ہونی چاہئے۔
- iv. اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فرد اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ دکھائے گا۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بمع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ (اگر پہلے مہیا نہیں کی گیا تو) مہیا کرنا ہو گا۔

5. انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی (لازمی)

- i. فنانس ایکٹ، 2017 کی دفعات کے تحت (جو کہ 01 جولائی 2017 سے نافذ العمل ہیں) انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح میں ترمیم کر دی گئی ہے، یہ شرح حسب ذیل ہے:

ii.

1	انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والوں کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	15 فیصد
2	انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	20 فیصد

- iii. ایسے حصص دار جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر دی گئی ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، باوجود اسکے کہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، کیلئے نصیحت ہے کہ وہ اپنے ناموں کا ATL میں اندراج یقینی بنائیں تاکہ کمپنی انکے نقد ڈیویڈنڈ سے 20 فیصد کی بجائے 15 فیصد ٹیکس کاٹے، بصورت دیگر انکے نقد ڈیویڈنڈ سے 15% کی بجائے 20% کی شرح سے ٹیکس کاٹا جائے گا۔
- اسکے علاوہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے مطابق، ایسے حصص دار جو مشترکہ اکاؤنٹس میں حصص رکھتے ہیں، انکے پرنسپل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈر کیلئے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کا تعین علیحدہ علیحدہ انکے اپنے اپنے فائلر/نان فائلر سٹیٹس کے مطابق کیا جائے گا جس میں انکی حصص میں ملکیت کے تناسب کو مدنظر رکھا جائے گا۔

چنانچہ تمام حصص داروں سے، جو حصص کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں، درخواست ہے کہ اپنے حصص میں پرنسپل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈر کی ملکیت کا تناسب نیچے دئے گئے جدول کے مطابق تحریر کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

جوائنٹ حصص دار	پرنسپل حصص دار	کل حصص	فولیو / CDS / ID / اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام
نام اور شناختی کارڈ نمبر	ملکیت تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	ملکیت تناسب (حصص کی تعداد)	

اس نوٹس کے 10 دن کے اندر مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو ضرور فراہم کر دیں بصورت دیگر یہ تصور کیا جائے گا کہ تمام حصص میں پرنسپل حصص دار اور جوائنٹ ہولڈرز برابر ملکیت رکھتے ہیں۔

.iv FBR کے سرکلر No. 1(29) WHT/2006 بتاریخ 30 جون 2010 اور DG (WHT)/2008-1(43) C. Vol.II-66417-R بتاریخ 12 مئی 2015 کے مطابق جب سیکنڈ شیڈول کے چوتھے پارٹ کی کلاز 47B کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 (ڈیویڈنڈ پر ٹیکس) کے تحت ٹیکس کی گٹوتی سے قانونی استثنیٰ حاصل ہو تو یہ استثنیٰ حاصل کرنے کیلئے استثنیٰ کا قانونی سرٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے۔

.v کسی بھی سوال/مسئلے / معلومات کیلئے، سرمایہ کار کمپنی سیکرٹری سے انکے فون نمبر 051-4252157 اور ای میل ایڈریس cs@ferozsons-labs.com اور / یا کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے انکے فون نمبر 042-35170335-7 اور ای میل ایڈریس info@corptec.com.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

.vi CDC اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ حصص داروں سے درکار ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کے پاس اپنا تازہ ترین نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) درج کروائیں، جبکہ کارپوریٹ فزیکل حصص داروں سے درکار ہے کہ وہ اپنے NTN سرٹیفیکیٹ کی ایک کاپی کمپنی کو یا کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھجوائیں۔ NTN یا NTN سرٹیفیکیٹ، جیسا بھی معاملہ ہو، بھیجتے وقت کمپنی کے نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

.6 سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کو ای میل/سی ڈی/ یو ایس بی یا کسی دیگر میڈیا (اختیاری) کے ذریعے فراہم کرنا :

SECP کی جانب سے جاری کردہ 2014 SRO 787(1) بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور 2016 SRO 470(1) بتاریخ 31 مئی 2016 کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارے (سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، کمپری بینسو انکم کی سٹیٹمنٹ، کیش فلو سٹیٹمنٹ، نوٹس برائے مالی گوشوارے، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ) اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام ای میل / سی ڈی/ یو ایس بی یا کسی دیگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انکے رجسٹرڈ پتے پر بھجوا سکتی ہے۔

جو حصص دار مالی گوشواروں (Financial Statements) کی شائع کردہ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.ferozsons-labs.com پر دئیے گئے سٹینڈرڈ درخواست فارم کو پُر کر کے جمع کروائیں۔

.7 وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کیلئے درخواست:

کسی دوسرے شہر میں رہائش رکھنے والے ایسے حصص دار جو مجموعی طور پر کمپنی کے 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص کے مالک ہوں، اجلاس میں شرکت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے کمپنی کو وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں بشرطیکہ کہ اس شہر میں وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت دستیاب ہو۔ یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے برائے مہربانی مطلوبہ معلومات کے ساتھ درج ذیل فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔

میں / ہم _____ کے _____ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے طور پر _____ عمومی حصص کے مالک ہیں جن کا رجسٹر فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر _____ ہے، بذریعہ ہذا شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔
نام اور دستخط _____

کمپنی سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ممبران کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مقام سے آگاہ کر دے گی اور اس سہولت سے استفادہ کرنے کیلئے درکار تمام معلومات مہیا کر دے گی۔

8. ڈیویڈنڈ وارانٹ پر CNIC/NTN نمبر (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO 275(I)/2016 بتاریخ 31 مارچ 2016 اور SRO 831(1)/2012 بتاریخ 5 جولائی 2012 کے مطابق ڈیویڈنڈ وارانٹ پر، نابالغ اور کارپوریٹ حصص داروں کے علاوہ، رجسٹرڈ حصص دار یا باختیار نمائندہ کا CNIC نمبر درج ہونا لازمی ہے۔

چنانچہ ایسے ممبرز جنہوں نے اپنے CNIC کی درست کاپی یا، کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، NTN کی کاپی جمع نہیں کروائی، ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو انکی نقول جمع کروائیں۔ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ وارانٹس کی ترسیل روک سکتی ہے جب تک کہ قانون کے مطابق CNIC کی درست کاپی مہیا نہ کر دی جائے۔

9. نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذریعے سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ، 2017 (Companies Act, 2017) کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت، نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک ذریعے سے مستحق حصص داروں کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست کی جا سکتی ہے۔ SECP نے 2017 کے سرکلر نمبر 18 کے ذریعے 31 اکتوبر 2017 تک یہ شرط ختم کر دی ہے۔ اس تاریخ کے بعد کسی بھی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف مقرر کردہ طریقہ کار کے تحت کی جائے گی۔

تمام حصص داروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مہیا کریں جس میں درج ذیل معلومات فراہم کریں؛ (i) اکاؤنٹ کا ٹائٹل (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) IBAN نمبر (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ۔ CDC میں حصص رکھنے والے حصص داروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی مندرجہ بالا تفصیلات اپنے متعلقہ CDC کو فراہم کریں۔

10. کمپنی کے 30 جون 2017 پر مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ کردہ گوشوارے (Audited financial statements) کمپنی کی ویب سائٹ www.Ferozsons-labs.com پر دستیاب ہیں۔